



### کینیڈا ڈے پر آتش بازی محفوظ طریقے سے استعمال کریں

برامپٹن، آن (25 جون 2021)۔ سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو کینیڈا ڈے پر آتش بازی کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ رہنے کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔

اگر رہائشی بیرونی جگہوں پر دوستوں یا خاندان کے ساتھ جمع ہونے کو منتخب کریں، تو ان سے درخواست ہے کہ صحت و تحفظ کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ برامپٹن بروز بدھ، 30 جون کو رات 12:01 پر صوبے کی جانب سے معمولات زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے مطابق، بیرونی سماجی اجتماعات کی حد 25 افراد تک محدود ہے۔ اندورنی اجتماعات کی حد پانچ لوگوں تک محدود ہے، بشمول دوسرے مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اراکین۔ اپنے پیاروں اور کمیونٹی کو محفوظ رکھیں۔ بہتر حفظان صحت اور جسمانی فاصلہ بندی پر عمل کریں اور جب ایسا کرنا مشکل ہو تو ماسک پہنیں۔

### آتش بازی سے حفاظت

کینیڈا ڈے سال کے ان چار مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی وکٹوریہ ڈے، دیوالی اور نیو اینرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔ چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں جب لگایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دور جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ یہ تقریباً برامپٹن ٹرانزٹ بس یا باسکٹ بال کی رنگ کی اونچائی تک جاتی ہیں۔ دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سڑکوں، سائٹیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

نجی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- پانی کا ایک برتن یا ہوز لائین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جلائیں یا پکڑیں نہیں۔
- آتش بازی کو کبھی بھی دوسروں پر نہ پھینکیں یا رخ نہ موڑیں۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔

حالیہ طور پر برامپٹن میں کوئی بھی رجسٹرڈ آتش بازی فروش نہیں ہیں۔ ہم آپ کو تجویز دیں گے کہ آتش بازی کا سامان صرف لائسنس یافتہ فروخت کنندگان سے ہی خریدیں۔

آتش بازی سے تحفظ اور ضمنی قوانین کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/fireworks](http://www.brampton.ca/fireworks) ملاحظہ کریں۔